

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَمَا هُوَ اَهْلُهُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ وُلْدِ اَدَمَ كَمَا يُحِبُّ وَيَرْضٰى بِاَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ

In The Name Of Allah The Most Compassionate Very Merciful
All Praise Due To Allah And Peace And Blessings Be Upon His Beloved Messenger

Manqabat of Ghaus Pak by Huzoor Mufti Azam Hind

کھلا میرے دل کی کلی غوثِ اعظم
مٹا قلب کی بے کلی غوثِ اعظم

Khila Mere Dil Ki Gali Ghous E Aazam

Mita Qalb Ki Be Kali Ghous E Aazam

Cause the bud of my heart to blossom O Ghaus Azam

Ease the uneasiness of my heart O Ghaus Azam

ترے رب نے مالک کیا تیرے جد کو
ترے گھر سے دنیا پلی غوثِ اعظم

Tere Rab Ne Maalik Kiya Tere Jad Ko

Tere Ghar Se Duniya Pali Ghous E Aazam

Your Lord has bestowed the ownership (of His entire kingdom) to your
grandfather (RasoolAllah SallAllahu alaihi wasallam)
The entire world is fed from your home O Ghaus Azam

وہ ہے کون ایسا نہیں جس نے پایا
ترے در پہ دنیا ڈھلی غوثِ اعظم

Wo Hai Kaun Aisa Nahi Jisne Paaya

Tere Darr Pe Duniya Dhali Ghous E Aazam

There is none who returned empty-handed
The whole world flocks at your door O Ghaus Azam

کہا جس نے یا غوثِ اِغْثٰنِی تو دم میں
ہر آئی مصیبت ٹلی غوثِ اعظم

Kaha Jisne Ya Ghous Aghisni To Damm Me

Bar-Aayi Musibat Tali Ghous E Aazam

Every calamity turns back on its feet in a jiffy
Whenever someone calls out to you for help O Ghaus Azam

نہیں کوئی بھی ایسا فریادی آقا
خبر جس کی تم نے نہ لی غوثِ اعظم

Nahi Koi Bhi Aisa Fariyadi Aaqa

Khabar Jiski Tumne Na Li Ghous E Aazam

There none who called out to you for help,
And you refused to help O Ghaus Azam

مری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا
ترے در سے دنیا پلے غوثِ اعظم

Meri Rouzi Mujhko Ataa Kar De Aaqa

Tere Darr Se Duniya Ne Li Ghous E Aazam

Grant me my share of the sustenance, my master
The entire world is fed at your door O Ghaus Azam

نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں
کہیں اور بھی ہے چلی غوثِ اعظم

Na Maangu Me Tujhse To Fir Kis Se Maangu

Kahi Aur Bhi Hai Chali Ghous E Aazam

If not you, who else should I stretch my hands to?
For I have nowhere else to turn to O Ghaus Azam

جو قسمت ہو مرہی بری اچھی کر دے
جو عادت ہو بد کر بھلی غوثِ اعظم

Jo Qismat Ho Meri Buri Achhi Kar De

Jo A'adat Ho Badd Kar Bhali Ghous E Aazam

Please change the evil of my destiny to good
And transform my bad character into good O Ghaus Azam

ترا مرتبہ اعلیٰ کون ہو نہ مولیٰ
تو ہے ابن مولیٰ علی غوثِ اعظم

Tera Martaba A'ala Kyo Ho Na Maula

Tu Hai Ibn E Maula Ali Ghous E Aazam

It is not surprising that you are on such a lofty station
For you are the grandchild of Maula 'Ali (may Allah be pleased with him) O
Ghaus Azam

قدم گردنِ اولیاء پر ہے تریا
ہے تو رب کا ایسا ولی غوثِ اعظم

Qadam Gardan E Awliya Par Hai Tera

Hai Tu Rabb Ka Aisa Wali Ghous E Aazam

Your foot is on the necks of all Awliya

You are such a great Wali of Allah O Ghaus Azam

جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی
تجھے ایسی قدرت ملی غوثِ اعظم

Jo Doobi Thi Kashti Wo Damm Me Nikali

Tujhe Aisi Qudrat Mili Ghous E Aazam

You rescued a sinking ship in just a moment

You possess such great power O Ghaus Azam

ہمارا بھی بڑیا لگا دو کنارے
تمہیں ناخدائی ملی غوثِ اعظم

Hamara Bhi Beda Laga Do Kinare

Tumhe Nakhudayi Mili Ghous E Aazam

Sail our ship to security likewise to the shore

For you have been bestowed with captaincy O Ghaus Azam

تباہی سے ناؤ ہماری بچا دو
ہو اے مخالف چلی غوثِ اعظم

Tabahi Se Nao Hamari Bachaa Do

Hawa E Mukhalif Chali Ghous E Aazam

Save our ship from destruction

There comes a heavy storm from the opposite direction O Ghaus Azam

مرا حال تجھ پر ہے ظاہر کہ پتلی
تری لوح سے جا ملی غوثِ اعظم

Mera haal tujh par hai zaahir ki putli

Teri lauh se ja mili mili Ghaus e Azam

You are aware of my situation

For your pupil is fixated onto the Sacred Tablet O Ghaus Azam

فدا تم پہ ہو جائے نوری مضطر
یہ ہے اس کی خواہش دلی غوثِ اعظم

Fida Tumpe Ho Jaaye Noori E Muztar

Ye Hai Uski Khwaish Dili Ghous E Aazam

May this naive Noori (Pen name of Huzoor Mufti Azam Hind) be sacrificed for
your sake

It is the deep desire of his heart O Ghaus Azam